

81093- کیا پورا رمضان روزہ نہ رکھنے والا شخص تیس روزوں کی قضاء کرے گا یا کہ مہینہ کے ایام کے مطابق؟

سوال

میری بیوی رمضان المبارک میں حالت نفاس میں تھی جس کی وجہ سے اس نے ایک روزہ بھی نہ رکھا، ان شاء اللہ بعد میں وہ اس کی قضاء میں روزے رکھے گی، میرا سوال یہ ہے کہ: کیا وہ اتنے ایام کے روزوں کی قضاء کرے گی جتنے لوگوں نے روزے رکھے تھے یعنی مہینہ انیس یوم کا تھا یا اٹھائیس یوم کا لیکن تیس دن پورے نہیں ہوئے، کیا لوگوں نے جتنے روزے رکھے اتنے یوم کی قضاء کرے گی یا کہ ہر حال میں اسے تیس روزے رکھنے ہیں؟

پسندیدہ جواب

اگر کسی عذر مثلاً سفر، یا بیماری، یا نفاس وغیرہ کی بنا پر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکے تو وہ ایام کے حساب سے روزوں کی قضاء کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

{جو کوئی بھی تم میں مریض ہو یا مسافر تو وہ دوسرے ایام میں گنتی پوری کرے}۔ البقرة (184).

چنانچہ اگر تو ماہ رمضان تیس یوم کا تھا تو وہ تیس دن کے روزے قضاء میں رکھے گی، اور اگر انیس یوم کا تھا تو وہ روزے بھی انیس یوم کے رکھے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ قمری مہینہ اٹھائیس یوم کا ہو۔

اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اسے تیس روزے رکھنا لازم ہیں، یا پھر پورا قمری مہینہ روزے رکھے۔

الانصاف میں ہے:

"جس شخص مثلاً قیدی وغیرہ کے بھی کسی عذر کی بنا پر رمضان المبارک کے روزے رہ جائیں چاہے ماہ رمضان پورے ایام کا تھا یا ناقص ایام کا تو وہ اس کے دنوں کے تعداد کے مطابق ہی قضاء کرے گا، جس طرح کہ نمازوں کی تعداد ہے، صحیح مذہب یہی ہے"

دیکھیں: الانصاف (333/3).

اور قاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اگر اس نے مکمل قمری مہینہ کے روزے رکھ لیے چاہے مہینہ انیس یوم کا ہو یا تیس کا تو کافی ہے، اور اگر مہینہ روزے نہیں رکھتا تو پھر تیس روزے رکھ لے۔

چنانچہ پہلے قول کے مطابق جس نے بھی مہینہ کے شروع سے مکمل مہینہ کے، یا پھر مہینہ کے دوران سے انیس یوم کے روزے رکھے، اور رمضان المبارک انیس یوم کا تھا تو ایام کی تعداد کے مطابق یہ روزے کافی ہیں۔

اور دوسرے قول کے مطابق وہ ایک دن کا روزہ اور رکھے تاکہ چاند کے مطابق مہینہ پورا ہو سکے، یا پھر تیس یوم کی تعداد پوری کرے "انتہی مختصراً۔

اور "مخ الجلیل" میں ہے:

جس نے بھی مکمل رمضان کے روزے نہ رکھے اور ماہ رمضان تیس یوم کا تھا، اور اس نے بعد روزوں کی قضاء چاند کے مطابق پورا مہینہ روزے رکھے اور وہ مہینہ انیس یوم کا ہو تو وہ ایک دن کا روزہ اور رکھے گا، لیکن اس کے برعکس آخری دن کا روزہ رکھنا لازمی نہیں ہوگا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿چنانچہ وہ دوسرے ایام میں گنتی پوری کرے﴾۔

مشہور یہی ہے، اور ابن وہب کہتے ہیں: اگر وہ چاند کے مطابق روزے رکھتا ہے تو جتنے روزے رکھے وہی کافی ہیں، چاہے انیس یوم ہی ہوں، اور رمضان تیس یوم کا ہو "انتہی۔

دیکھیں: مخ الجلیل (152/2)۔

مزید تفصیل کے لیے آپ الموسوعة الفقهية (75/28) کا بھی مطالعہ ضرور کریں۔

حاصل یہ ہوا کہ: آپ کی بیوی کے ذمہ مہینہ کے ایام کی تعداد کے مطابق روزے ہیں، اگرچہ مہینہ انیس یوم کا ہی ہو۔

واللہ اعلم۔